

# 10th East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting

September 09, 2020

## ایسٹ ایشیاء سمٹ کے وزرائے خارجہ کا 10واں اجلاس

ستمبر 09، 2020

1- ہندوستان کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ (ایم او ایس) شری وی مرلی دھرن نے 9 ستمبر 2020 کو ایسٹ ایشیاء سمٹ کے وزرائے خارجہ کی 10 ویں میٹنگ (10 ویں ای ای ایس ایف ایم ایم) میں شرکت کی۔ اس اجلاس کا انعقاد ورچوئل طور پر کیا گیا۔

2- اس میٹنگ میں ایسٹ ایشیاء سمٹ کے شریک ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی، اور اس کی صدارت سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب فام بن منہ نے کی۔

3- اس میٹنگ میں قائدین کی زیر قیادت ایسٹ ایشیاء سمٹ پلیٹ فارم کو مستحکم کرنے اور اس کی 15 ویں برسی کے موقع پر ابھرتے چیلنجوں کو مزید جواب دہ بنانے کے طریقوں اور ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزراء نے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا جس میں کووڈ 19 وبائی مرض، اور ایک تیز رفتار اور پائیدار بحالی کے لئے تعاون بھی شامل ہے۔ اس اجلاس میں ایسٹ ایشیاء سمٹ فریم ورک کے تحت شریک ہونے والے ممالک کی طرف سے کئے گئے وعدوں کی صورتحال اور 2012 میں ایسٹ ایشیاء سمٹ کے ممالک کے رہنماؤں کے ذریعہ اپنائے گئے ایسٹ ایشیاء سمٹ ترقیاتی اقدام پر پنوم پن اعلامیہ پر عمل درآمد کے لئے منیلا پلان آف ایکشن (2018-2022) پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ نومبر 2020 میں طے شدہ آئندہ 15 ویں ای ای ایس ایس سمٹ کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

4- بھارتی وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے اپنے ریمارکس میں آسیان کی چیئر کی حیثیت سے کووڈ 19 وبائی مرض کی وجہ سے مشکل اور غیر یقینی وقت میں ایک 'مربوط اور جوابدہ آسیان' کی مسلسل رہنمائی کی فراہمی کے لئے ویتنام کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے انڈو پیسیفک خطے کے ایک اہم میکانزم کے طور پر ایسٹ ایشیاء سمٹ کے ذریعہ ادا کردہ کلیدی کردار کو اجاگر کیا، اور اسے مضبوط اور زیادہ جوابدہ بنانے کے لئے ہندوستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔

نئی دہلی

ستمبر 09، 2020